

المراجع

1. باللغة العربية

علي، أ، محضار، أ.ج. (2003). *قاموس عربية - إندونيسية العصرية*.

كرايباك: ملتي كريا غريفكا.

المنور، أ. (1984). *قاموس عربية - إندونيسية*. رياض: دار المعارف.

ص، عرفان (2008). *دراسة تحليلية لترجمة كتاب "لاتخزن" من تأليف شمس*

الرحمن (دراسة تجريبية عن طريقة الترجمة وإجرائها وأساليبها من اللغة العربية إلى

لغة الإندونيسية)

رسالة،: دون نشر.

2. باللغة الإندونيسية

Ahmad Patoni, 'Modernisasi Pendidikan Pesantren' dalam Akhyak, ed,
Menitijalan Pendidikan Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar hal. 364

Alkalali, A. (1997). *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang.

Alwasilah, C. (2007). *Pokoknya Kualitatif*. Bandung.

Amalia, Farida. (2007). *Peningkatan Kemampuan Menerjemahkan Bahasa Perancis ke dalam Bahasa Indonesia Melalui Model Penerjemahan Pedagogis Profesional*. Tesis. Bandung : FPBS UPI. Tidak diterbitkan.

Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian (Edisi V)*. Jakarta: P.T Asdi Mahasatya.

----- (2006). *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Partanto, P.A dan Al-Barry, M.D (1994) *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkalola.

Syihabudin. (2005). *Penerjemahan Arab Indonesia*. Bandung :Humaniora

Sudjana, N. (2004). *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah; Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

----- (1996). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Internet :

- [http://Indonesia-english-translation.com/terjemahan.co.cc/2008/definisi terjemahan](http://Indonesia-english-translation.com/terjemahan.co.cc/2008/definisi%20terjemahan)
- <http://www.wikipedia.indonesia.or.id>
- <http://www.indoskripsi.or.id>

